

usuul assalaasa wa adillatuhaa

Mucamma bin Qabdulwahhaab

usuul asslaasah kitaabay shek

macammad bin qadulwahhaab

bicseeh shek qarba qafar afat korseh

yani kinni tamah. tama kitab elle

faxxiimannal qafar inkih elle geytu

duddannal maqnisimteh tan.

<https://islamhouse.com/2782463>

- [Usuul assalaasa](#)
- [بسم الله الرحمن الرحيم](#)
 - [Ixig yalli koh racmatuh](#)
[affaram naaxigem raqnek alle](#)
[waytam.](#)

- Ixig Yalli koh racmatuh
raqsinni fardi islamtul
labbooway sayyooway
3sidiicam bartam , kaadu elle
taamitam
- Naharsi makaado : Yalla
yaaxigeenimi.
- Nammeyhatto rakiibo.
Yaaxigeemi islaam diini
sumaaqalluk.
 - Naharsi caddo :islaama.
 - Nammey hatto
caddo :imaana
 - 3sidoc hayto makaado :
Icsaan kinni.
- 3Sidic hayto makaado :Sinni
nabi taaxigeenim kinni.

Usuul assalaasa

(qafar afa)

Bicissem:

shek macammad bin qabdulwahhaab

___TM

Qafar afat korissem:

Qarba Qumar Macammad

Sekkaacu(amoggacsa) abtem:

Idriis Siraaj Qabdalla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِعْلَمْ رَحِمَاكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ:

Ixig yalli koh racmatuh affaram

.naaxigem raqnek alle waytam

المسألة الأولى: الْعِلْمُ: وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ.

Naharsitto. Ixxiga. Axcih Yalla
naaxigeemi.Nabi naaxigeemi(s)
Islaam Diini naaxigeemi Daliil
.kahluk

المسألة الثانية: الْعَمَلُ بِهِ.

.Nammeyhatto. Elle taamitnaama

المسألة الثالثة: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

Sidochayto.Seeco Yalla fanah.

المسألة الرابعة: الصَّبْرُ عَلَى الْأَدَى فِيهِ. وَالِدَلِيلُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿وَالْعَصْرِ *
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾
سورة العصر كاملة.

Fareyhatto.Xiqaanama Diini Seecol
 koo yaafe gandi. Tohuk Daliili
 amri kak fayyaye Rabbi iyyeh.((
 Qasri Uddurul xiibita hinnay
 Dabaanal xiibita, Sinam baytih addal
 geytimtaamah Yeemene mari koh
 raaqay immay teemeneh meqe taama
 taamitem Cakkil sitta fayissem
 hinnay Xiiqil sitta farrimtem koh
 raqtay immay)). Al-qasri.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَّتْهُمْ.

Iyyeh Imaam al-shaafiqi Yalli kaah
 Yalli oobise wannay ta"racmatay :
 Suuraksa Qhuraan Sinaam
 ."xiqakten

قَالَ الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: بَابُ: الْعِلْمُ قَبْلَ
 الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَاعَلِمْنَا أَنَّهُ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ) [محمد: ١٩]، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ
(قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ) (١).

Iyyeh Boukhaari Yalli kaah
rahmatay. Baabun axcuk afa kah
xise : ixxiga taakume Maxcoo kee
taamak tohuk sumaq faxxek Yallih
maxco wagit (ixig nummaak Yalli
inkittuy agleyta sinni kinnim, Yallal
esserit toysommem koh
.Ixxigak qimbise (maxcoo kee)cabam
taamak dumal).

اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ،
تَعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلَاثِ مَسَائِلٍ، وَالْعَمَلُ بِهِنَّ:

Ixig Yalli koh racmatuh raqsinni
fardi islamtul labbooway
sayyooway 3sidiicam bartam ,
kaadu elle taamitam

الأولى: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا،
 بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ،
 وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا
 أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى
 فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ
 أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٥، ١٦].

Naharsitto. Yalli nee gine , nee
 yaskameh, nee macabinna
 tuhinnal, nummal farriimeh nifanah
 farmoytitte, oggoltem culele Gannat,
 kaa cintem culelem Gira, tohuk
 sumaq Yallih maxco kinni ((nanu
 nummaak farrimneh sin fanah
 Farmoyta siinil sumaaqitu waahiyya
 akah rubnennaah Firqawnu fanah
 Farmoyta dirabboyseh Firqawni
 Farmoyta kaa nibbixeh gidbih yan
 xebexah)). Muzzammil.15-16.

الثَّانِيَّةُ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨].

Nammey hatto.nummaak Yalli makicni agleyta kaal haanam kaah aban Qibaadal,takke way malaaikaytuy kaal xayi, Nabiyy farmoh ruube kinniway, tohuk sumaq faxxek Yallih maxco wagit ((nummaak masaagid Yallih imi makallacina kaalluk agleytah inkittu)). Alginni(18).

الثَّلَاثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةٌ مِنْ حَادِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ

عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ
بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
{[المجادلة: ٢٢]}.

Sidoc hayto . Farmoyta nummayse
num , Yallih inkittinaaneh rammite
num kaa celtam hinna abbitam Yallaa
kee farmoyti naqboytit takke way
xaynah inkih keenil xayni mara.

Sumaq yallih maxco.(mageyta
sinaamay Yallal teemene kiyaama
nummase akcinah Yallaa kee
Farmoyti naqboytit takke way keenik
abbobti hinnay xalaay hinnay
tooboko hinnay kedo takke way tama
marak sorkoco baxal Imaan nookiseh
diggoyse Is le qaxaak ken

libbodoyses,ken culse le gannatay
 guba dorwa kak gexxa kay addal
 waarelon, usun yalla yeskeeceneenih
 Yalli ken askeecenele tama mari
 yallih qande kinnon naggowtem
 Yallih Qande kinni). Moujaadala 22.

اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِبَطَاعَتِهِ، أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ:
 أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ
 جَمِيعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا
 خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:
 ٥٦]. وَمَعْنَى ﴿يَعْبُدُونَ﴾: يُوَحِّدُونَ، وَأَعْظُمُ مَا أَمَرَ
 اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدَ، وَهُوَ: إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. وَأَعْظُمُ مَا
 نَهَى عَنْهُ الشِّرْكَ، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَالدَّلِيلُ
 قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
 شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٥].

Ixig Yalli koo missoysuh saytunkeli
 Ibrahim Diini :taqbudem kinni Yalla
 dibuk Diini caggaloysak dibuk

Yallah , toh kinni Yalli sinam inkih
 elle amriseeh kah ginem, akah
 iyyennaah faytole rabbi((ginni
 kee Aadam baxa inkih kah ginem
 mayyu Qibaada tekkeh akke
 waytek)).Zaariyaat56). **Yaqbuduun
 iyyaanama** : inkittoysaanam,
 nabaamay Yalli amrise Tawciid kinni
 toh Qibaada Yalla caglisaanam kinni.
 Kaxxaamay Yalli kak waase shirki
 kinni, toh Yallat agleyta
 haanama. Yalli iyyeh((**Yalla uqbuda
 agleh tu kaal mahaysina**)). **Nissa 35** :

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى
 الْإِنْسَانَ مَعْرِفَتُهَا؟

Kok iyyeenik :maa sidiicaamay num
 yaaxigem faxximtam ?.

فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Ixxic : naqsi Yalla yaaxigeemi, isi
Diini yaaxigeemi, isi Nabi
Mucammad(s.q.w.)yaaxigeemi.

* الأصل الأول *

معرفة الرب

**Naharsi makaado : Yalla
yaaxigeenimi.**

فاذا قيل لك: من ربك؟.

Kok iyyeenik : iyya ku rabbi ?.

فَقُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّنِي، وَرَبِّيَ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ
بِنِعْمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ؛
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [الفاحة: ٢]. وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ،
وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ.

Ixxic : yi Rabbi Yalla yoo yeynebe
 Rabbi, Gino inkih yeynebe Rabbi Isi
 maqaanel, anu aqbudem Kaa mayyu
 kaaksah aqbudem, Yallih maxco
 sumaaqa(fayla Yallile Qaalam
 Rabbile) faatica 2. Yalli kak
 raqqayem Qaalama anu too
 Qaalamak numuk tiyah anyo.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

Kok iyyeeniki : Yalla macal
 teexegeeh ?

فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ،
 وَالشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ
 وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَمَا بَيْنَهُمَا؛ وَالذَّلِيلُ
 قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
 وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ
 الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].
 وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿الأعراف: ٥٤﴾. وَالرَّبُّ
هُوَ الْمَعْبُودُ، **وَالدَّالِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:** ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿البقرة: ٢١، ٢٢﴾.

Ixxic : kay astooti, kay gino,
kayastooti: bar kee loqo ayroo kee
alsa, kay ginoona malcina qaraana
malcina baaxo wohi addal tanim
wohi fanal tanim tohuk sumaaqa,
Yallih maxco kinni, (**Yalla tascasse**
astooti, baraay loqooy ayrooy alsa,
sujuud maabina ayroytah wonnaah
alsah Sujuud Yallah aba ayrooy alsa

gineh tekkeenik Yallah xiine mara(fussilat 37). Yallih maxco:(nummaak sin Rabbi Yalla kinni Rabbi leh Qaran gineh Baaxo gine Rabbi lica- ayroh addal tohuuk gamadal missoowe Rabbi Qarshik irol bar loqol buula tuuy way amrisa ayrooy alsa kaadu cutuuka inkih rammitteh yallih amri betteh ginooy amri lem kaa kunnabal faytole cooca mali agleyta mali inkih yan qaalamak Yalli Rabbi kinni(aqraaf 54).yaqbudeenim faxximtam Yalla tohuk Sumaq Yallih maxco(kee sinaamey uqbuda sinRabbiy singineh iyya siinik dumi mara kaadu gine Rabbi takkeeni gidih Yallak conxita mara kinni Rabbi leh baaxo fisse rabbi Qaran iro xisneh soolise Rabbi

Qaraanak lee siinih oobisa Rabbi
oobise leel wadir baaxok caxammiiru
yayyaaqe Rabbi toh sin maaqo kinni
mahaysina yallal agleyta isin aaxigak
yoo ceele sinnim hinnay Yalla akke
sinnim(21,22).

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْخَالِقُ لِهَذِهِ
الْأَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ.

Iyyeh ibnu kasiir Yalli kaah
racmatuh : ah inkih gene Rabbi
cakkisitah kaa yaqbudeenim.

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ: الْإِسْلَامِ،
وَالإِيمَانِ، وَالإِحْسَانِ، وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالْخَوْفُ،
وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ،
وَالْخُشُوعُ، وَالْخَشْيَةُ، وَالْإِنَابَةُ، وَالِاسْتِعَانَةُ،
وَالِاسْتِعَاذَةُ، وَالِاسْتِغَاثَةُ، وَالدَّبْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ
ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. كُلُّهَا لِلَّهِ
تَعَالَى.

Yalli elle amriseh yan qibaadak
 weelallo: Islaaminna Imaaninna
 icsaan too loowole, Duuqa, Conxo,
 sangeeli Yallal kelittam Yallih
 maqaaneh sangeltam Yallih digaalak
 Conxittam Yallah rammittam Yallak
 meysittam Yallal taduurem Yallal
 cato faxxam Yalla magansittam Yalla
 eleelittam masgaada Nazri, wohuuk
 kalah tanim kaadu Qibaadak inkih
 Yallih imi.

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا
 مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا
 لِغَيْرِ اللَّهِ؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ **وَالدَّلِيلُ**: قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا
 حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون:
 ١١٧].

Tohuk sumaq Yallih
maxco :(nummaak Masaagid Yallih
imi Yallaa kaltinim makallacina
Masgiid adda) ginni :18). Kelseh
yanmari tamahak tu Yalla kaltaniimih
Yallal agleyta heeh kaafirtu yakke :
tohuk sumaq Yallih maxco (Yallalluk
agleytah Yalli yan iyye num tohu
sumaq mali, kaal baahu waam Yallih
garil tan Yalliyy umeene
mayaysillima) (Muminuun :117).

وَفِي الْحَدِيثِ: (الدُّعَاءُ مَخِ الْعِبَادَةِ). وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ
تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
{غافر: ٦٠}.

Cadiis addal :(Duuqa Qibaadak
xuucu).tohuk sumaq Yallih
maxco(iyyeh sin Rabbi yol essera

siinih aceeyyo yol t'esseraamak
yekexxee mari culelon gahannam
uqunxuyya yeenih)ghaafir :60).

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

Yallak meysi sumaq(keenik
mameysitinay yok meysita yeemeneh
yan mara tekkeenik)Aala
qimraan :175).

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

Yallal haan kibaalak sumaq :Yallih
maxco : (Siinik sangeela num Yallih
angaarawah meqe taama abbaasitay
taamitay Yallah aba Qibaadal inkittu
asgalle waay)alkahfi :110).

وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]. وقوله: ﴿وَمَنْ
 يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

Yallal haan kibaalak sumaq :Yallih
 maxco :(Yallal haysita kibal
 yeemeneh yan mara tekkeenik)
 Almaaida :23. Yallih maxco :(Kibaal
 Yallal hee num Yalli kaa xiqah)
 (attalaak :3).

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ، وَالرَّهْبَةِ، وَالْخُشُوعِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
 وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

Sangeeli, Conxo ,Meysi :tamahak
 sumaq :(usun sugeneh asissikak
 maqaane fanah y'esserak yenen
 Sangeelak conxitak anuk yenen yok
 meysitak)Alambiyaa :90).

وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنِي...﴾ (الآية [البقرة: ١٥٠]).

Meysik sumaq Yallih maxco : (
keenik mameysiitinay yok
meysita)Albakara :150).

وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ
وَأَسْلِمُوا لَهُ...﴾ (الآية [الزمر: ٥٤]).

Madaarak sumaq :Yallih
maxco :(uduura Yalla fanah kay
amrih xiina).alzzumur :54).

وَدَلِيلُ الْاسْتِعَانَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ﴾ [الفاحة: ٥]. **وَفِي الْحَدِيثِ: (...وَإِذَا
اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ).**

Catotta sumaq :Yallih maxco (koo
naqbudem koo Cato elle
fannam)Alfaatica :5). Cadiis addal
(...Cato faxxek Yallal fax).

وَدَلِيلُ الاستِعَادَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١]. وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾
[الناس: ١].

Magansitiyyak sumaq :Yallih maxco(
ixxic magansitah hinnay Eleelitah
Maaca qanxisa Rabbi)Alfalak :1).
Kee(ixxic magansita hinnay
Eleelitah Sinaamak
Rabbi)Annaas :1).

وَدَلِيلُ الاستِغَاثَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ...﴾ الآية [الأنفال: ٩].

Catotta sumaq :(faxxeeneh tanin
waqdi sinni Rabbil Cato siinih
oggolleh) Al anfaal :9).

وَدَلِيلُ الدَّبْحِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ
 وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ [الأنعام:
 ١٦١-١٦٣]. وَمِنَ السُّنَّةِ: (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ). (٢)

Masgaada sumaq :Yallih
 maxco :(ixxic yoo Yalli yescesseh
 missale Gita fan Diiniy mako sinni
 Ibraahim Diini axcih kelteh Ibraahim
 deedalak yani fan mananna Yallat
 agleyta haamarat,iaxxic Yi Salaat
 hinnay Yi Qibaadah asta Yi
 Masgaada yok mano kee rabi Qaalam
 rabbih imi,agleyta mali tohul
 ammirsime Yallah xiine marak
 naharsittu kinniyo)Al anqaam :161-
 163).

وَدَلِيلُ النَّذْرِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ
 يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧].

Nazri sumaq Yallih maxco :(duudusa
mara Yallah culen nazri meysiita
mara addal umaane kak fixiixxa
laaqoytak) Alinsaan :7.

* الأَصْلُ الثَّانِي *
مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ

Nammeyhatto rakiibo. Yaaxigeemi islaam diini sumaaqalluk.

وَهُوَ: الاستِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالاِنْقِيَادُ لَهُ
بِالطَّاعَةِ، وَالْبِرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، وَهُوَ ثَلَاثُ
مَرَاتِبٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ. وَكُلُّ
مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.

Toh :yallah xiinaanam inkittinaanel
yallih amril guurumaanama yallal
agleyta haanamak hinnay haamarak
naggowaanama toh sidiica caddoh
tani :islaamininnaay, iimaaninnaay

icsaan kinni.ummaanih caddo
rakiibole.

المرتبة الأولى: الإسلام

Naharsi caddo :islaama.

فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.

Islaamininna^rakiibo 5
takke :sumaaqittaama Yalli inkittu
nammeyhattu mali nummaak
Mucammad yallih farmoyta, Salaat
abtaama Zakaat taceemi Raamadaan
alsa xayyittaama Yallih qibaadah
Qari diyaartaama.

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران، ١٨].

Shahaada sumaq Yallih
 maxco :(Yalli sumaaqiteh isi
 inkittinaaneh Malaaika sumaaqitteh
 Qulama kaadu sumaaqitteh Qadlil
 nammeyhattu sinniimih inkittuy
 reedal duddale abaamal
 cikmatleksarra)Aala qimraan18).

وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدُّ النَّفْيِ مِنَ
 الْإِثْبَاتِ (لَا إِلَهَ) نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 (إِلَّا اللَّهُ) مُثَبِّتًا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي
 عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ فِي مُلْكِهِ.

Adda fakootu :Yallaksa nummaak
 yaqbudeenim matana,waassa
 qangar(yalli mayana) waassah
 ummaan imiy uqbudda haanak
 Yallakkal (Yallaaksa) geysissah
 Qibaada dibuk Yallah taguudem

agleyta maleh reeda dibuk kah
cakkisitennaah.

وَتَفْسِيرُهَا: الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَإِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا
الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً
فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف: ٢٦ - ٢٨].
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل
عمران: ٦٤].

Tatre yaabih addaffakoot :
baxxaqissah yallih maxco iyyah amri
kak fayya ye Rabbi ((kassis iyyeh
waqdi Ibraahim isi abba kee isi
marak anu nummaak naggooweh isin
taqbudeenimik inki Rabbiy yoo gineh
yoo missoysa faxeemiy raqtem

maqbuda tama qangara raqtam abe
 kaak gamadal yaduure mara
 yakkeenim keeh)) azzukhruf :26-28

wohuk kalah iyye Yalli((ixxic
 mummadow Yahuud kee nasaaray
 ama inki gide neh takke qangara
 fanah aqbude waynam keeh Yallaa
 kal tanim caggalosnam keeh kaah
 abna taama agleh tu kaal hee waynam
 keeh mariiy mara nek Yallah haysite
 waam keeh Yalla cabba hayneh
 cineeni ken tekkek neh sumaaqita
 ixxic islaam kinninoomuh))
 imraan :64 !.

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾. [التوبة:

Mucammad Yallih farmoyta
kinniimih sumaq :Yallih maxco
kinni :(nummaak sin fan yemeeteh
farmoytay siinik yan kaal gidbih sin
cina sangeelah taamineenimih
yeemene marah xuwaw kee
racmattale) attuwba 128.

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا
أَمَرَ، وَتَصَدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ
وَزَجْرَ وَالْأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

Mucammad Yallih farmoyta
iyyaanah sumaaqitaanamak
maqna :usuk amriseemil kaa
oggolaanama warseemil kaa
nummaysaanama kak waaseeh
miysiiseemik yaddeereenimi Yalla
kay gital yaqbudeenimi.

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ: قَوْلُهُ
 تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
 دِينُ الْفَيْمَةِ﴾ [البينة: ٥]

Salaat kee Zakaatak Tawciid
 addaffakootuk sumaqa :Yalli
 iyyeh :(ken mamrisinno Yallih
 qibaadaksa caggaloysak diini kaah
 shirkik addeerak Salaat abak Zakaat
 acuwak missale diini toh kaana)
 albayyina :5.

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]. :

Soomuk sumaaqa : yallih maxco
 kinni(yeemene maraw fardi siinil
 abne Soom alsa kah fardi abnennaah

siinik dumi maral takkeeni gidih
Yallak meysita mara)183.

وَدَلِيلُ الْحَجِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].

Caji fardi kinniimih sumaqa :Yalli
iyyeh faytole Rabbi :(Yalli leh
Sinaamal Caji diyaaraanam dudda
kahle mari cine mari yukfureh Yalli
gaddali Qaalamak mayatceega) aala
qimraan :97 :

=الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَّةُ: الْإِيمَانُ

Nammey hattoh caddo :imaana

وَهُوَ: بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ
شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

Usug :70malcina taban kee tuh exxa
yakke :iro raqtam Yalli inkittu itta
maxco kinni, guba raqtam umaane
gitak kalaanam kinni, Caya imaanak
exxak teyna kinni.

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: كَمَا فِي الْحَدِيثِ (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ،
وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ
بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ).

Makaado kaak 6kinni : cadiisil elle
yaninnal (Yallal taamineemi,
Malaaiikal taamineemi, Kitoobal
taamineemi, Farmoytittel
taamineemi, Kiyaamah ayrol
taamineemi, kadaral (cukmil)
taamineemi yamqay yaamay Yallak
yani ittaama.

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴿البقرة: ١٧٧﴾

Tama 6 makaadok sumaq :Yallih
maxco kinni (maqaane tafkuneenim
ayro mawqa kee ayro
kormal,maqaane kak yaanam Yallal
taamineemi raq siinni kiyaamah ayrol
taamineemi hinnay malaatika,kitooba
ambiyal yaamineemi) albakara :177).

ودليل القدر: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

Yallih cukmik (kadar) sumaq Yallih
maxco: (ummaanin inkih ginneh
kaah nuckumeemil) axcih Yalli amri
kak faytole Rabbi ummaan imih
caddi kee caddo hee.

الْمَرْتَبَةُ الثَّلَاثَةُ: الْإِحْسَانُ

3sidoc hayto makaado : Icsaan kinni.

أركانها: وله رُكْنٌ وَاحِدٌ. كما في الحديث: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) .
 وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
 وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]. وَقَوْلُهُ
 تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ
 حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الشعراء: ٢١٧ - ٢٢٠]. وَقَوْلُهُ
 تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ
 وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ
 تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: ٦١].

Rakiibo kaak : linkittu kinni Cadiisil
 elle yecessennal : (Yalla taqbudeemi
 kaa tableh innal kaa able wayta way
 usug koo yableh). Yallih maxcoy
 faytole (Yalli yanih isik meysiita
 mara kee meqe maray abto kak

meqelluk). **Annacli :128)** amri kak faytole Rabbi iyyah :(wakali haysit nabna kee racmattale Rabbil koo salaatah soltah waqdi kee sujuuduh ob tah waqdi usug yaabbeh yaaxige Rabbi kinni).**ashuqaraa :217-220).** Iyyeh fayto le Rabbi(tuy abtaana matton tuy kawissaana matton kuraanak hinnay taamay abtaana matton tohul siinilluk eneh akke waytek tohuk addal gexsittaaanah waqdi).yuunus 61).

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جَبْرِيلَ الْمَشْهُورُ: عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا
نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ
طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ
الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا
أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى

فَخَذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ:
 (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
 وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ،
 وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). قَالَ:
 صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: أَخْبِرْنِي
 عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ،
 وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ
 وَشَرِّهِ). قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ
 الْإِحْسَانِ. قَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ
 تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ). قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ.
 قَالَ: (مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ). قَالَ:
 فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: (أَنْ تَلِدَ الْأُمَمَةُ رَبَّتَهَا،
 وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ
 يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ). قَالَ: فَمَضَى، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا،
 فَقَالَ: (يَا عُمَرُ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلُ؟). قُلْنَا: اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ
 دِينِكُمْ). (٣)

Icsaanak sumaq cadiisil: Jibriil
 Cadiisiy mamaxxigik yani kinni.

Qumar(R.Q.) iyyeh : nanu

daffeynal anuk Yallih Farmoytih
garil(S.Q.w.) ayrok teyna, nel yewqe
num kaxxa Qidi luk kay Sari ,kaxxa
Diti luk kay Dagorti , kaal matanbulla
gexso numih Weelo, nek num kaa
maaxiginna,Daffeyna Farmoyti
ruugul abe (S.Q.w.) Gulub gulubul
kaak eyseedda hee, Gaba namma
Diiqarek amol kaak hayya hee,
iyyeh : Macammadow yoh warisey
islaamininna ? iyyeh Yallih
Farmoyti(S.Q.w.) Sumaaqittaama
Yallih inkittinaaneh Macammad
farmoytiinoh, Solissaama Salaat,
tattaceemi Dakaat(Zakaat)
Xayyittaama Xayyi alsa, diyaartaama
Makki Qari Dudda kah teellek.
Nummaseh iyye.Cakkumu inne isih

isserah isih nummaysa. **iyyeh** : yoh
warisey imaaninna ? **iyyeh** :
Taamineemi Yallal kay Malaa-ikal,
kay kitoobal, kay Farmoytittel,
illacaboh ayrol, taamineemi kay
Cukmil Umaane kee maqaane kaak
taniimil taamineemi, **iyyeh**
nummaseh : **iyyeh** : yoh warisey
icsaaninna ? **iyyeh** : kaa taqbudeemi
kaa tableh innal atu kaa able wayta
way usug koo yableh. **iyyeh** : yoh
warisey Kiyaama takke ayro ? **iyyeh** :
esseran num essera numuk edde
mayaysa. **iyyeh** : yoh warisey astooti
teetik ? **iyyeh** : Naqso isi amoyta xaltu
wayta saaku, hinnay baxi ina amrisu
waasaaku, tabalu wayta saaku
ibqasuk Qasunuk Baacoytit wadar
daanisak yen marih xaylo Qarwa

xisnel anaakartu waytah saaku.tohuk
 wadir gexeh, dagoom sugeeh, **wohuk**
gamadal iyveh : maay taaxige
 Qumaarow essero abtem kinni num ?
 exceh : yallaa kee farmoyta taaxige.
Iyveh : amah Jibriilik sukte, yemeeteh
 diini sin barsa gidih)) Muslim
 xaagooyse.

الأصل الثالث

مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ،
 وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ
 مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى
 نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلَاثُ
 وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلَاثُ
 وَعِشْرُونَ فِي النُّبُوَّةِ. نَبِيُّ ب(أَفْرَأ)، وَأُرْسِلَ
 ب(الْمُدَّتِير)، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ.

3Sidic hayto makaado :Sinni nabi taaxigeenim kinni.

Mucammad (s.q.w.) Usug Mucammad bnu Qabdillaah bnu Qabdulmuttalib bnu Haashim kurayshik yan kurayshi kaadu Qarabak yan Qarab kaadu Ismaa qil Ibraahim baxih oslek tan kaa kee ni Nabih amol inkih saalat kee nagayna tanay ;manol sugem63karma hinnay (liggida) 40karma Qaran farmo kaal oobe kal sugeeh 23karma Farriimimek gamadal suge.maysaxxaga Qimbo kaak (ikra)elle farriimimem (mouddassir) kinni kaak baaxo Makka kinni.

بَعَثَهُ اللَّهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَبِالدَّعْوَةِ إِلَى
التَّوْحِيدِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ

فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ
 فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ
 ﴿[المدرثر: ١-٧]. وَمَعْنَى: ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾: يُنذِرُ عَنِ
 الشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ. ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾: أَي:
 عَظِّمُهُ بِالتَّوْحِيدِ. ﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾: أَي: طَهِّرْ
 أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ. ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾: الرُّجْزُ:
 الْأَصْنَامُ، وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا، وَالْبِرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا،
 أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ
 الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ
 الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ،
 وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهَجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَالْهَجْرَةُ الْإِنْتِقَالُ
 مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ.

Yalli Mucammad ruubeh meysiisa
 gideh (shirkik) Yallal agleyta
 haanamak Tawciidi fanah seecisak
 tohuk sumaq faxxek (daliil) amri kak
 fayto le Rabbi iyyeh (yambududuw
 sol meysis (tama soolo daffeynak
 aban soolo hinna)seeco bagul gac

iyyaanamakkaal, Yalla eyneb kaa ceele
 sinnim kay fan baahaanamak, sara
 thaahirros (taama Yallah ab, xaa kee
 caxxi qibaadak eddeer assamaggeh
 yaanam masuumutin (addunyaal
 magxitin diinil agxit) tamahat koo
 eleeltaamal isbir galto kee cato inkih
 Yallak
 wagit). [almuddassir](#) :71. tamahal
 10sanat sugeeh tohuuk gamadal
 Qaran guuru tekkeeh Yalli Salaat
 fardi kaal abeeh 5koona wakti fardi
 kaal abeeh 3Sanat makkal kaa abeeh
 tohuuk gamadal guuroh Madiina fan
 haysite, Guuro kufri baaxok islaam
 baaxo fanabaanama.

وَالْهَجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكَ
 إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ،
 وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ

ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ
 فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً
 فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ
 مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
 وَالْوِلْدَانَ لَّا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا *
 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًّا
 غَفُورًا ﴿[النساء: ٩٧-٩٩]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا
 عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ
 فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

Guuro fardi kinni mucammad
 ummatih amol kufri baaxook islaam
 baaxo fanah,kiyaama tikka tamfan,
 tohuk sumaq Yallih maxco
 kinni,faytole Rabbi iyyeh(Malaaiika
 rooci kak tayyaaqe mari umaane
 bagul anuk keenik axcelon
 macabbagul sugten,axcelon sugneh
 boolale maray faxam agdube waah,
 keenik axcelon Yalli gene baaxo

nabuk masuginnaa macah guurume
 waak sugteenih,tama geyti ken
 mayayyaaqa Gahannam gadda
 akkelon,gaceyni keenik yoomeh Gira
 maa ruftoleeh , boolale mara
 faxeemiy,Labahak sayyok urruk
 duudewaa mara guuro bica hinnay
 giti iggima, tamarah Yalli cabu waam
 digga Yalli tu tatur magoh
 yoysommeenim caba Rabbi
 kinni)annisaa :97-99)faytole Rabbi
 iyyeh (yinaqoosak yeemene maraw
 gine baaxo madagoh dibuk yoqbuda)
 alqankabuut :56).

قَالَ الْبُغَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي
 الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللَّهُ بِاسْمِ
 الْإِيمَانِ.

Iyyeh Albughawiiyyu Yalli kaah racmatuh ;tama aayat oobeh yeemene maray makki addal raaqeh iyyay guurume weehiyya Yilli keenih seeceh imaan migaaqal.

وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهَجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهِ). (٤)

Guuro sumaq Cadiisik : iyyeh Yallih farmoyti (s.q.w.) : (guuro mataggiriqqa Tawbat iggiriqqa yam Tawbat maggiriqqa ayroyta ayro kormak bukkutam fanah). Tamannah iyyaanam yitoobokoy num kufri baaxo diini taagah cabaanam rabbatam waaso mali hinnay kiyaama korratam idya mali tama namma

waqdi koros taamineh umeeni
yaduureh Yalli moggola toowaqdih
qabaabako kee adaadar.

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ أَمَرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ،
مِثْلِ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالْأَذَانَ، وَالْجِهَادِ،
وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ
مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ،
وَتُوْفِّي - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - وَدِينُهُ بَاقٍ.

Madiinal arac xabba heek gamadal
Yalli kaa amriseh raqte islaaminna
xintok : Zakaatay, soomuuy , cajiyy ,
hinnay aazaanay, gihaaday maqaanel
amrisaanah umaanek waasaanamaay,
wohuuk kal tanim islaamininna
xintok tamahal 10tabna sanat sugeeh
tohuuk gamadal rabeh (s.q.w.)kay
diini raaqeh.

وَهَذَا دِينُهُ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا
 حَذَّرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ،
 وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا
 مِنْهُ الشِّرْكَ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ. بَعَثَهُ اللَّهُ
 إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ
 الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ؛ **وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا
 أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعٍ﴾** [الأعراف:
 ١٥٨]. **وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿**
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. **وَالدَّلِيلُ**
عَلَى مَوْتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿
إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ
رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: ٣٠، ٣١].

Tah Mucammad diini, meqem
 maraaqinna neh yescesseh akke
 waytek,umaanek inkih nee
 meysiiseh,maqaaney yescesse
 Tawciidiy(**Yallih inkittinaane kinni**)
 inki gexook Yalli kicniih faxam kinni

umaaney kak waaseeh meysiise
Shirki(Yallat agleyta haanam
kinni)inki gexook Yalli niqbaah
raabite sinnim kinni. Yalli kaa
farriimeh(s.q.w.) inkih tan gino fan,
kaa oggolaanam aadam xaylo kee
ginnil inkih fardi abe tohuk sumaaqah
amri kak fayto le Rabbi iyyeh(ixxic
sinaamey inkih sinfan Yalli yoo
farriimeh)alaqraaf :158. Yalli kaal
duuduse diini tohuk sumaq ; amri kak
fayto le Rabbi iyyeh(asaaku diini
siinih duuduseh inni maqaane siinih
kibeh Islaamininna Diini xintoh
siinih dooreh) almaaida :3).
Rabeemih sumaq Yallih maxco
kinni(atu rabetto usun rabelon, sarra
kiyaama booxal Yallih foocal sitta

abbixetton sittak

waytaanamah)azzumur :30-31) :

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿
 مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً
 أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا
 ﴾ [نوح: ١٧، ١٨].

Sinam rabtek gamadal ugtele tohuk
 sumaq Yallih maxco kinni (baaxok
 sin ginneeh teetil sin gacsenno teetik
 sin ugsenno)thaaha :55). Iyyeh fayto
 le Rabbi(Yalli sin gineh baaxok sin
 gaaxeh, xisem yaggileh burtaaba,
 sarra butaabem yaynuwweh
 yayyaaqeh)nuuc :17-18).

وَبَعْدَ الْأُبْعَثِ مُحَاسِبُونَ وَمَجْرِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ،
 وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿النجم: ٣١﴾.

Kubuurok yewqeenii gamadal
cisabaay galto kentaamal keenih
akkele tohuk sumaq faxxek Yallih
maxcoy faytole kinni : (Yallih imi
7malcina qaraanih addal
tanim7malcina baaxoh addal tanim
galataggidih umeena ummaanel meqe
num maqaanel)annajmi :31). Yallih
maqaane gannata umaane gira kinni
girak Yalli nee catay gannatti mara
naabay.

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿
زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي
لَأُبْعَثَنَّ ثُمَّ لِلنَّبِيِّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
﴾[التغابن: ٧].

Rabek gamadal mukta iyye num yukfureh tohuk sumaq faxxek Yallih maxcoy fayto le kinni: (yukfure mari yekkele rabeenik gamadal ugte woonu waanam ixxic wallaahi ugtettoonum digga tohuk gamadal xaagu geetton abteenimik toh Yallal xamcinih)attaghaabun :7). Tama tiyal mango mari gitak yewqeh,takkay immay Yalli leeh anuk kolle hee ina maxaxak numuh koo yayyaaqe boodol kudagar dudda luk koo heen, mannah takke Yalli kayyaaqe waam.

وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ؛
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَاسٍ
يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء:

Yalli farmoytite inkih farriimeh
 aydakumusak hinnay meysiisak,
 tohuk sumaq Yallih maxcoy faytole
 kinni (farmoytiitiy aydakymyssah
 meysissah geewayta gidih sinam
 geytiy Yallah warsitta farmo marih
 waytih) annisaa :165

وَأَوْلَهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ - صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
 أَوْلَهُمْ نُوحٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا
 أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٥].

Naharsitti keenik Nuuc kinni
 (q.s.m)illacaboyti Mucammad kinni
 (s.w.m.) usug farmoytitek alifu kinni
 tohuk sumaq Yallih maxcoy fayto le
 kinni (Nanu kol oobisneh wacyi kah
 oobisnennah Nuucu fanah kaylakal
 tan ambiya fanah) annisaa:165.

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ
 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحَدَهُ،
 وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ
 وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]. وَافْتَرَضَ اللَّهُ
 عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ.

Ummaan ummat fan Yalli Farmoyta
 ruube Nuucuk qimbissa hee
 Mummada fan (s.w.m.) Yallih
 qibaada Yalla caggaloysa axcuk
 yeemeete xaa kee caxxih qibaadak
 ken waasak yemeete, tohuk sumaq
 Yallih maxcoy fayto le
 kinni (nummaak rubneh ummaan
 ummatah farmoyta Yalla uqbuda
 raqqateemih qibaadak eddeera)
 annacli :36.

Yalli inkih tan naqoosal fardi abe
dibuk is yaqbudeenim kaakkal tanim
aqbude waanam.

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: مَعْنَى الطَّاعُوتِ
مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حُدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتَّبُوعٍ أَوْ
مُطَاعٍ. وَالطَّوَاغِيَتْ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ:
إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا
النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ
الْغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: (رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ
الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

Iyyeh ibnul kayyim Yalli kaah
racmatay: Thaaghuut iyyaanam Naqsi
caddok elle tatreemi qibaadal

katayyul oggolul. Thawaaghiit mangoh abboti keenik konooyu(5) : inik hatti Sheetana Yalli k'aabaaraay, usug kicinuk yaqbuden numu, yoqbuda iyyah seeca numu, qellitem aaxigeh iyya numu, Yalli oobise weemil yackume numu, tamahak sumaq faytole Rabbih maxco kinni(diinil dirkisaanam matan maqaane qaddowtek sarra hinnay baxxaqimtek sarra umaanek baxsimtek sarra maqaane Thaaghuut yaqbudem cineeh Yallal yeemenek nummaak yibbixeh Qoroy digga le aggiriqqe sinni Yalli yaabbeeh yaaxigeh)albakara :256).tamah teeti Yalli inkittuuy agle mali iyyaanamak maqna, Cadiis addal :(amo raqtam Islaaminna, Kadeddi kaak Salaata,

Iro raaqa Barud Yallih taagah aban giclo).

وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Ixxiga Yallih imi. Salaat kee
Nagayna Mucammadal tanay
kaybuxah marih amol tanay kay
wadaayih amol tanay.